

፳፻፲፭ ዘመን ከልኩ / Pà ferie hos bestemor

፳፻፲፭ ዘመን ከልኩ



- Violet Otieno
- Cathérine Groenewald
- Maaozia Haj Mabrouk
- arabisk / bokmål
- III nivå 4

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreforsmidt av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkес i Norge.

Overrett av: Maaozia Haj Mabrouk (ar), Espen Illustret av: Cathérine Groenewald
Skrevet av: Violet Otieno
Strange-Johannesen (nb)

፳፻፲፭ ዘመን ከልኩ / Pà ferie hos bestemor

barnebøker.no

Barnebøker for Norge



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no>

Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons



كان أودنقو وأبيو يعيشان مع أبيهما في المدينة، وكانا يتظاران العطلة بفارغ الصبر، ليس فقط لأن المدرسة ستغلق أبوابها ولكن أيضا لأنهما يريدان زيارة جدتها التي كانت تعيش في قرية صيد محاذية لبحيرة كبيرة.

...


Odongo og Apiyo bodde i byen med faren sin. De så fram til ferien. Ikke bare fordi skolen var slutt, men fordi de skulle besøke bestemoren sin. Hun bodde i en fiskerlandsby nær en stor innsjø.

Odongo og Apayo var begæstret fordi det var på tide å
 besøke bestemor i gjen. Kvelden før pakket de vesken
 sine og gjorde seg klare for den lange reisen til
 landsbyen hennes. De fikk ikke sove og de snakket hele
 natten om ferien.

...

جیا گلے چکھا ہے جیا گلے چکھا ہے
 جیا گلے چکھا ہے جیا گلے چکھا ہے
 جیا گلے چکھا ہے جیا گلے چکھا ہے
 جیا گلے چکھا ہے جیا گلے چکھا ہے






وفي صباح اليوم الموالي، امتطى الصغيران سيارة أبيهما وقصدوا القرية باكراً. كانت السيارة تشق طريقها عبر الجبال وبين الحيوانات البرية ومزارع الشاي، وكان الصغيران يحصيان عدد السيارات ويغفيان.

...

Tidlig neste morgen dro de til landsbyen i bilen til faren sin. De kjørte forbi fjell, ville dyr og teplantasjer. De telte biler og sang sanger.



ولما عاد لأدنقو وأبيو إلى المدرسة، حدثاً أصدقائهما عن الحياة في القرية. أحـس بعض الأطفال أن الحياة في المدينة جميلة بينما أحـس البعض الآخر أنها أجمل في القرية. لكنـهم اتفـقوا جميعـا على أن لأدنقو وأبيو جـدة رائـعة.

...


Da Odongo og Apiyo dro tilbake til skolen, fortalte de vennene sine om livet på landet. Noen barn syntes at livet i byen var godt. Andre syntes at landet var bedre. Men viktigst av alt var at alle var enige i at Odongo og Apiyo hadde en fantastisk bestemor!

Efter en stund ble barna trøtte og sovnet.

...

فَلَّا


لَا يَرْأُوا بَعْدَ مَا لَمْ يَرُوا إِذْ هُنَّ عَنِ الْحُكْمِ حَلِيقُونَ



Odogo og Apoyo klemte henne hardt og tok farvel.

...

لَقِيَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَزْوَاجِ مَنْ أَنْتُمْ





أيقظ الأب الطفلين أودنكور وأبيو لدى وصولهما إلى القرية. وجد الصغيران جدتهما، نيار كنيادا، تستريح على حصير تحت شجرة. كان اسمها بلغة الليو يعني "ابنة شعب كنيادا" وكانت امرأة جميلةً وقويةً.

...

Faren vekket Odongo og Apiyo idet de ankom landsbyen. De fant Nyar-Kanyada, bestemoren sin, som hvilte på en matte under et tre. På luo betyr Nyar-Kanyada "datteren til Kanyada-folket." Hun var en sterk og vakker kvinne.



وعندما جاء أبوهما لاصطحابهما معه إلى المنزل، لم يريدا المغادرة، بل رجوا نيار كنيادا أن تذهب معهما إلى المدينة. ابتسمت الجدة وقالت: "لقد أصبحت عجوزاً، ولن أستطيع الذهاب إلى المدينة. سوف أنتظر حتى تعودا إلى قريتي من جديد".

...


Da faren deres kom for å hente dem, ville de ikke dra. Barna tryglet Nyar-Kanyada om å bli med dem til byen. Hun smilte og sa: "Jeg er for gammel for byen. Jeg skal vente på at dere kommer tilbake til landsbyen min."

Nyar-Kanyada ønsket dem velkommen og danset rundt i rommet mens hun sang av glæde. Barnebarna hennes var begjært over å overrække gavene de hadde fått med fra byen. „Åpne min gave først“, sa Odongo. „Nei, min gavet først!“ sa Apoyo.

...

”

„Vi tilber, vi tilber,“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten.“
„Ja, vi tilber oss om natten!“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten!“
„Ja, vi tilber oss om natten!“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten!“
„Ja, vi tilber oss om natten!“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten!“



Men snart var ferien over og barna måtte dra tilbake til byen. Nyar-Kanyada ga Odongo en skyggleue og Apoyo en genser. Hun pakket mat for reisen deres.

...

”

„Ja, vi tilber oss om natten!“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten!“
„Ja, vi tilber oss om natten!“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten!“
„Ja, vi tilber oss om natten!“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten!“
„Ja, vi tilber oss om natten!“ sa Odongo. „Vi tilber oss om natten!“





وبعد أن فتحت نيار كنيادا الهدايا، شكرت حفيديها وباركتهما على الطريقة التقليدية.


...

Etter at hun hadde åpnet gavene, velsignet Nyar-Kanyada barnebarna sine på tradisjonelt vis.

وفي نهاية اليوم شربوا شاي تشاري معا وساعدوا الجدة في حساب المال الذي حصلت عليه.

...

Da dagen var omme, drakk de krydret te sammen. De hjalp bestemor med å telle pengene hun hadde tjent.




...
Så gik Odongo og Apoyo ut. De jogde sammen og
fugler.
...



En annen dag dro barna til markedspllassen sammen med Nyar-kanyada. Hun hadde en bod der hun solgte grønnsaker, sukker og såpe. Apoyo likte å fortele kundene prisene på varrene. Odongo pakket varrene som kundene kjøpte.

...

ଜୀବି କରିବାକୁ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ
ଜୀବି କରିବାକୁ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ
ଜୀବି କରିବାକୁ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ





وتسلقا الأشجار واستحما في ماء البحيرة.
...

De klæret i trær og plasket i vannet i innsjøen.



وفي صباح أحد الأيام، أخذ أودنغو بقرات جدته إلى المرعى، فأسرعت البقرات بالدخول إلى حقل أحد المزارعين. غضب المزارع من أودنغو وهدد بأن يحتفظ بالبقرات عنده لأنها أكلت محصوله. ومنذ ذلك اليوم، عزم الولد على ألا يترك البقرات تتسبب في أي مشكل جديد.


...

En morgen tok Odongo kuene til bestemoren sin ut for å beite. De løp inn på gården til en nabo. Bonden ble sint på Odongo. Han truet med å beholde kuene siden de spiste avlingen hans. Etter den dagen sørget gutten for at kuene ikke skapte trøbbel igjen.

Nyar-kanyada lærté barnearna sine hvordan de skulle
læge myk ugali for å spise sammen med en gryterett.
Hun visste dem hvordan de skulle lage kokosris for å
spise sammen med grillert fisk.

...


لَمْ يَلْمِدْنِي أَبُوهُ كَمْ مَرَّتْ لَيْلَةٍ | كَمْ مَرَّتْ لَيْلَةٍ أَعْلَمُ
أَنْ يَقْرَأَنِي الْكِتَابَ | كَمْ مَرَّتْ لَيْلَةٍ أَعْلَمُ



Da det ble mørkt, gikk de tilbake til huset for å spise
middag. Før de ble ferdig med å spise begynte de å
falle i sovn!

...

وَلَمْ يَلْمِدْنِي أَبُوهُ كَمْ مَرَّتْ لَيْلَةٍ | كَمْ مَرَّتْ لَيْلَةٍ أَعْلَمُ
أَنْ يَقْرَأَنِي الْكِتَابَ | كَمْ مَرَّتْ لَيْلَةٍ أَعْلَمُ






وفي اليوم الموالي انطلق الأب بسيارته إلى المدينة وترك الصغيرين صحبة جدتهما نيار كنيادا.

...

Dagen etter kjørte faren deres tilbake til byen og lot dem bli igjen hos Nyar-Kanyada.



ساعد أودنقو وأبيو جدتهما في شؤون المنزل، فكانا يحضران الماء والحطاب ويجمعان البيض من قن الدجاج ويلتقطان الخضار من الحديقة.

...

Odongo og Apiyo hjalp bestemoren sin med gjøremålene i huset. De hentet vann og ved. De samlet egg fra hønene og plukket grønnsaker fra kjøkkenhagen.